



## سوال

(677) لڑکی کا غیبت اور چخل خوری کی وجہ سے شادی نہ کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ایک دو شیزہ کو ایک نیک صالح نوجوان کا پیغام آیا ہے مگر وہ اس شادی سے انکار کر رہی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ لڑکا ناپسندیدہ ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے گھر والوں میں غیبت اور چخل خوری کی بد عادت ہے۔ تو کیا اس کا اس وجہ سے اس شادی سے انکار کرنا صحیح ہے؟

## الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

جب لڑکی کو علم ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس پیغام دینے والے کا اس کے دین و اخلاق کی بناء پر اس کے لیے انتخاب کیا ہے تو اسے چاہئے کہ اس پر اپنی رضا مندی کا اظہار کر دے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ اس کے گھر والے غیبت وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے مرتكب ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے ایک حرام کام ہے، جب اسے ایک صالح برمل رہا ہے تو محض اس وجہ سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ ان کی اس خرابی کی اصلاح کرنا ممکن ہے کہ انہیں پند و نصیحت کی جائے یا اللہ کا خوف یاد دلایا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی ایسی مجالس میں نہ بیٹھے جن میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کی ہر مجلس میں شرکت کرے جس میں غیبت وغیرہ ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کمزوری کی وجہ سے جس کی اصلاح ممکن ہے، جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، یہ دو شیزہ ایک صالح شوہر سے محروم ہو جائے جس کا اس کے گھر والوں نے انتخاب کیا ہے، بلکہ اسے اس نیز اور بھلانی کو حاصل کر لینا چاہئے یعنی اس صالح آدمی سے شادی کر لے۔

[1] رقم مترجم عرض کرتا ہے کہ فضیلۃ الشیخ رحمہ اللہ کا مشورہ یقیناً صائب، عده اور قابل عمل ہے، مگر اس صورت میں جب اس جوڑے کے لیے اپنا عیحدہ گھر ہو۔ اگر ایک مختصر گھر کے اندر مخلوط انداز میں رہائش ہو تو ان معاشرتی بیماریوں سے بچنا محاں نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ بالخصوص جب گھر کے بڑے اور ابھم افراد غیبت جیسے بڑے کام کے عادی ہوں تو اس گھر میں آنے والی نو عمر، نوختہ دو شیزہ کو ان سب لوگوں سے عیحدہ رہنا اور عیحدہ روشن اختیار کرنا ایک بڑے امتحان میں پڑنے والی بات ہے۔ ہاں اگر یہ لڑکی اپنی عمر اور پیشے علم کی بنیاد پر موثر ہو سکتی ہو تو الگ بات ہے۔ شرعی اور اخلاقی اعتبار سے افضل اور اعلیٰ بات یہی ہے کہ ہر نئے تشکیل پانے والے جوڑے کے لیے ان کا اپنا عیحدہ گھر ہونا چاہیے۔

هذا عندی والله أعلم بالصواب



جعفریہ اسلامیہ  
الریسیخیہ  
العلویہ

## احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 481

محدث فتویٰ